

7. AL-A'RAF (PENAN LEKAT)

Suet ke-7: 206 ayat

Ngen sembut gen Allah Maho Pengasiak,
Maho Penyayang.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

1. *Alif Lam Mim Shod* (Allah bah de paling
namen tai ne)

الْمَصِّ ①

2. Dioba kitep da tenu-un gen ko mako
jibeakba ade asai sepit neak lem dadonu
kernone supayo udi melei peringatan
ngen kiteb-o (ngen tun kapea) jizai
pelajaran utuk tun-tun da beimen.

كَتَبْنَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ
لِتُنذِرَ بِهِ ۚ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ②

3. Totoa ba jano dabik tenu-un genko knei
tuhan-nu jibeakba temotoa pemipin-
pemipin seluyen-ne, sangat didik udi mok
pelajaran (kune-ne)

اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن
دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ۗ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ③

4. Dau negreai da sudo Keme binasakan
mako tekoba sikso Keme (temipo
penduduk)ne neak waktau ko ade neak
kelmen atau neak waktau ko beristirahat,
neak tengak bilai.

وَكَمْ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيِّنًا أَوْ
هُم قَائِلُونَ ④

5. Mako coa ade si nyesoa neak waktau
teko ngen si sikso Keme kecuali madeak
sebenea-ne keme adeba tun da zalim.

فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا
إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ⑤

6. Mako sebeneane keme lok ade umat-
umat da bik nutus rasul-rasulne ngen si
sebeneaqne keme lok temanye (kulo)
r a s u l r a s u l K e m e .

فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ
الْمُرْسَلِينَ ⑥

7. Mako sebeane Keme lok kemabar ngen si
(jano-jano da bik ko kemerjo) idong
(Keme) namen (keadaan si) Keme agok
d i d i k c o a u a k . (k u n e s i) .

فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلْمٍ ۖ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ ⑦

8. Tim(b)ang pado bilai-o ade ba kebenea
(adea), mako api da be-et kebaikanne
mako si tun-tun da berutung.

وَالْوِزْنَ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ ۚ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ

		فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٨٥﴾
9.	Api da lengan timbang kebeneane mako do-o ba tun-tun rugai awokne dewek kerno si terus coa pecayo ayat-ayat K e m e .	وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ ﴿٨٦﴾
10.	Sebeneane Keme bik menea plabai udi kute neak muko bumei Keme menea utuk nu neak muko bumei-o sum(b)er kehidupan sangat didik ba udi besukur.	وَلَقَدْ مَكَنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَةً قَلِيلًا ۗ مَا تَشْكُرُونَ ﴿٨٧﴾
11.	Dan sebeneane Keme bik menciptakan udi (Adam) lajau Keme menea ules awoknu sudo-o Keme madeak ngen malaikat bersujudba udi ngen Adam mako si kulo besujud seluyen iblis, si coa termasuk tun da besujud.	وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ ﴿٨٨﴾
12.	Allah madeak janokah da menghalang-nu utuk besujud (gen Adam) neak waktau Uku meluak-ko ? Iblis jawab : uku lebiak baik kune si ko ciptakan uku kune opoi sedang si ko ciptakan kunei taneak.	قَالَ مَا مَنَعَكَ إِلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ ۗ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴿٨٩﴾
13.	Allah madeak tu-un ba udi kunei sergo-o kerno udi coa sepatutne om(b)ong dirai neak lemne, mako kelua ba sebeneane udi termasuk tun-tun da hina.	قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ ﴿٩٠﴾
14.	Iblis njawab nelel kesempatan ngen uku sapei waktau si bik klongon (neak bilai k i y a m a t) .	قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿٩١﴾
15.	Allah madeak sebeneane udi termasuk da n e l e i k e s e m p a t a n .	قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ ﴿٩٢﴾
16.	Iblis njawab kerno ko sudo mukum uku tesesat uku benea-benea lok (mengalangi) si kune dalen-Nu da lu-us.	قَالَ فِيمَا آغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿٩٣﴾

17. Sudo-o uku lok teko ngen si kunei muko ngen kne belakangne kunei kanen ngen kunei kideu-ne ko coa gik temau dadau-si b e s y u k u r . (t a ; a t) .

ثُمَّ لَا تَيْنَهُمْ مِّنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَنِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ
شٰكِرِيْنَ ﴿٧﴾

18. Allah madeak keluaba udi kunei sergo yo lem keadaan tun terhino kulo ter-usir, sebeneane api neak antarone temoto-a udi benea-benea Uku lok misai nrako j a h a n a m n g e n u d i k u t e n e .

قَالَ أَخْرَجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَّدْحُورًا لَّمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٨﴾

19. Dan allah madeak hoi adam diemba ko ngen ngenyan-nu neak sergo kulo kemukba gik udi beduai buak-buak neak ipe bae kelok udi dan jibeakba udi keduai ma-ok ngen pun-yo lajau udi keduai t e m a s u k t u n - t u n d a z a l i m .

وَيَتَقَادُمُ اسْكُنُ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٩﴾

20. Mako syetan misik piker kidek ngen keduaine utuk kemten ngen keduaine janoda tetutup kuneine dioba auratne. Syetan madeak tuhannu coa temgeak udi ma-ok pun-yo kecuali supayo udi beduwai coa ijai malaikat atau coa jijai t u n d a k e k a l (l e m s e r g o) .

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْءَاتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَتَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ﴿١٠﴾

21. Dan si (syetan) besupeak ngen keduaine sebeneane uku yoba termasuk tun da melel nasihat ngen udibeduwai.

وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ ﴿١١﴾

22. Mako syetan mujuk keduaine (utuk muk buak-o) keno kike gidong keduaine bik kemcep buak kiyu-o keten ba keduaine aurat-auratne muloi ba tenutup ngen dawen-dawen sergo sudo-o tuhanne majok si beduwai do-oba uku bik tem(g)reak udi beduwai ma-ok pun kiyu-o dan uku madeak gen udi beduwai sebeneane syetan-o musuak da keten utuk u d i b e d u w a i .

فَدَلَّلَهُمَا بِغُرُورٍ ۖ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ ۗ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَأَقُلْتُ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٢﴾

23. Keduaine mendu-o ho Tuhan keme keme bik zalim gena wok keme dewek amen ko coa mapun keme gen melei rahmat ngen keme paset keme termasuk tun-tun d a r u g a i .
- قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٢٣﴾
24. Allah madeak tu-un ba udi kutene paok udi ijai musuak paok da luyen, udi ade pelabai ting(g)a ngen keriyang (plabai mesoa idup) neak muko buei sapei w a k t a u d a s u d o t e n t a u .
- قَالَ أَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿٢٤﴾
25. Allah madeak neak bumei-o udi idup ngen neak bumeio udi matei dan kunei bumeio (kulo) udi lok kenlongon.(neak b i l l a i k i y a m a t) .
- قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ﴿٢٥﴾
26. Hoi anak adam sebeneane Keme bik temu-un ngen ko kracok utuk temutup auratnu ngen bajau da ba-es utuk perhiasan. Dan bajau takwa do-o bad a paling baik, da awei-o ba pa-o tando-tando kekuasaan Allah buliak ko terus i n g e t .
- يَبْنِيٰٓءَ آدَمَ ۖ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُورِي سَوَآءَ تِكُمْ وَرِيشًا ۗ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ۗ ذَٰلِكَ مِّنْ ءَايَاتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿٢٦﴾
27. Hoi anak adam jibeak ba agok debat udi tekike ngen syetan awei si sudo kemliak keduwai induk bapoknu kune sergo, si empas kune keduwaine kracok utuk kemliak aurat keduwaine, sebeneane singen pengikut-pengikutne kemliak udi kunei do plabai da udi coa kemliak si, sebeneane Keme bik menea syaitan-syaitan-o pemipin-pemipin tuk tun-tun da coa beimen.
- يَبْنِيٰٓءَ آدَمَ ۖ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ ۖ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا ۗ سَوَآءٌ لَّهُمَا ۗ إِنَّهُ يَرِنِكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ ۗ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوُهُمْ ۗ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيْطَانَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٧﴾
28. Dan amen si kemrejo kerjo da keji si madeak keme dapet kerjo-o kune ninik muyang keme. Allah meluak keme kemrejone, kadeakba sebeneane allag coa meluak (kemrejo) kerjo da kidek (keji) , gentai udi made-made neak adep Allah j a n o d a c o a u d i n a m e n .
- وَإِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا ءَابَاءَنَا وَٱللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا ۗ قُلْ إِن ٱللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآءِ ۗ أَتَقُولُونَ عَلَىٰ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾

29. Kadeakba Tuhanku meluak manu adea, dan (kadeakba) lu-usba papea (dirainu) neap tiep semyang dan sembeakba Allah ngen ihlas, keta'atannu gen Si, aweipe Si sudo menciptakan udi kunei pertama (awei-o kulo ba) udi lok konyo belek gen Si.
- فَلْ أَمْرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴿٢٩﴾
30. Pa-o neleine petunjuk ngen pa-o kulo bik paset sesat utuk si , sebeneane si menea-syetan-syetan pelindung (ne) seluyen Allah, gen si sako bahwa si dapat petunjuk .
- فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ ۗ إِنَّهُمْ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ ﴿٣٠﴾
31. Hoi anak Adam nakei-ba bajau-nu neak tiep (masuk) masjid. Dan kemuk ngen menemba jibeak belebiak sebeneane Allah coa senang tun-tun da belebiak.
- * يَبْنِي ۖ ءَادَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾
32. Kadeakba apei si da mengharamkan perhiasan kunei Allah da bik kenluane utuk hamba-hamba-Ne gen (apei kulo da mengharam) rezkai da baik ? Kadeakba kutene-o (bik sennyap) utuk tun-tun da beimen lem kehidupan dunnyo, khusus (utuk si bae) neak bilai kiyamat. Aweo ba Keme jemlas ayat-ayat-o utuk tun-tun da namen.
- قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ ۖ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ۗ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٣٢﴾
33. Kadeakba Tuhan ku mengharam kerjo da kideik baik da keten atau da coa keten, ngen kerjo duso melang(g)ea hok manusio ngen coa alasan da benea (mengharamkan), semrai Allah ngen da luyen, Allah coa temu-un hujjah utuk-o ngen (mengharamkan) made-made adep Allah jano da udi coa namen.
- قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۖ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا ۚ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾
34. Tiep-tiep umat ade batas waktau, mako amen bik teko waktaune si coa dapat mundur agok didikpun ngen coa nam kulo majune.
- وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ ۖ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْذِنُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿٣٤﴾

35. Hoi anak-anok Adam amen teko gen ko rasul-rasul kunei udi da mencritokan gen ko ayat-ayat-Ku mako apei udi da takwa ngen menea baik coa ba de kuatir adepnu gen coa kulo si besedih ati.
- يَبْنِي ۙ آدَمَ ۖ إِنَّمَا يَاْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ۚ ءَايَاتِي ۖ فَمَنْ أَتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٣٥﴾
36. Dan tun-tun da coa pecayongen ayat-ayat Keme mombong dirai neak adepne si-o isai nrako si kekal lemne.
- وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٣٦﴾
37. Mako apei si da lebiak zalim kunei ngen tun da menea-menea ngike adep Allah atau ngike ayat-ayat-Ne tun-tun-o paset dapet bagian dabik tentep utukne lem kiteb (Laukh Mahfuz) sapei amen teko ngen si utusan-utusan Keme (malaikat) utuk mok nyabaine (neak waktau-o) utusan Keme temanye : neak ipe (patung-patung) da biaso udi sembeak seluyen Allah ? tun-tun musyrik-o jemawab patung-patung-o bik nyep kunei keme, si makau adep diraine sebab si-o ba tin-tun da kapea.
- فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ۗ أُولَٰئِكَ يَنَالُهُمُ نَصِيبُهُم مِّنَ الْكِتَابِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوهُمْ قَالُوا أَإِن مَّا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ۖ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَيَّ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ﴿٣٧﴾
38. Allah madeak masukba udi kutene moi lem nrako samo umat-umat jin ngen manusio dabik deno ayok udi, tiep sa'at umat masuk (lem nrako) si mengiak ngen kuwatne (da menyesatkan si) sapei amen si masuk kutene milingba tun-tun da masuk sudo-o neak antaro si ngen tun-tun da masuk bel-o; hoi tuhanku si bik menyesatkan keme kerno-o neleiba ngen si sikso da belipet ganda kune nrako, Allah madeak dewek-dewek dapet (sikso) dabelipet ganda tapi udi coa namen.
- قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ فِي النَّارِ ۖ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا ۖ حَتَّىٰ إِذَا آدَارُكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَيْنَهُمْ لِأَوْلِيَّهِمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَفَاتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ ۖ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٍ وَلَكِن لَّا تَعْلَمُونَ ﴿٣٨﴾
39. Tun-tun da masuk deno miling antaro si ngen tuntun da masuk kedong udi coa ade lebiak agok didik kunei keme, mako keding ba sikso kerno kerjo kidek da bik udi kemrejo.
- وَقَالَتْ أَوْلِيَّتُهُمْ لِأُخْرَيْنَهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿٣٩﴾

40. Sebenea-ne da ngike ayat-ayat Keme gen ombong dirai madep Si agok debat coakan nukok utukne bang-bang lenget gen coa kulo si masuk sergo sapei uto masuk lubang dolom, awei-o ba Keme melei bales ngen tun-tun da mendoso.
- إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفْتُحُ لَهُمُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ ﴿٤٠﴾
41. Si ade tikea tidua kunei opoi nrako kulo neak dasne ade slimut (opoi nrako) awei-o ba Keme melei bales ngen tun-tun da zalim.
- لَهُمْ مِّنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿٤١﴾
42. Dan tun-tun da beimen kulo ngerjo amea-amea da baik Keme coa empek ban gen dirai seluyen sekedar kesang(g)upne, si-o ba tung(g)au sergo si kekal neak lemne.
- وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٤٢﴾
43. Dan Keme semabut kute mecem dedem da ade neak lem dadone. Ngalia neak beakne siring-siring ngen si madeak kutene pujai utuk Allah da bik tenunjuk keme ngen sergo yo dan keme agok debat coa dapet petunjuk amen Allah coa melei keme petunjuk. Sebeneane bik teko rasul-rasul Tuhan Keme mbin kebenaran ngen majok si do-oba sergo da newariskan utuknu kerno jano da bel-oudi dau kemrejo.
- وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِّنْ غَلٍ ۖ نَّجْرِي مِّن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ ۖ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنَّ هَدَانَا اللَّهُ ۖ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ۖ وَنُودُوا أَن تُلَكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٤٣﴾
44. Dan penghuni-penghuni sergo majok ngen penghuni-penghuni nrako (ngen madeak) sebeneane keme bik dapet jano da tuhan keme jemanjai ngen keme, mako janokah udi bikdapet ngen sebeneane (azab) da tuhan udi jemanjai (gen ko), pemghuni nrako jemawab benea, sudo-o tun majok (malaikat) mumum neak antaro duwai golongan-o kutukan Allah nelei gen tun-tun da zalim.
- وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا ۖ قَالُوا نَعَمْ ۚ فَآذَنَ مُؤَدِّنُ بَيْنَهُمْ أَن لَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿٤٤﴾

45. (Dio ba) tun-tun da menghalangi (manusio) kunei dalen Allah ngen kemlok buliak dalen-o jijai brikok, gen si kapea ngen kehidupan akhirat.
- الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ ﴿٤٥﴾
46. Dan neak antaro keduaine (penghuni sergo ngen nrako) ade batas gen neak das a'raf, do-o ade tun-tun da mengenal dewek-dewek kunei klopok-o ngen tando-tandosi, si majok penghuni sergo slamat utuk udi, ayok si masukne sedangkan si lok gacang masuk.
- وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَتِهِمْ وَنَادُوا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلِّمُوا عَلَيْنَا لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴿٤٦﴾
47. Dan amen ngeliak si naliak moi arah nrako si madeak hoi tuhan keme jibeakba ko empek keme undok tun-tun da zalim-o
- ﴿ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٤٧﴾
48. Dan tun-tun da neak das a'raf medu dautun (pemuko-pemuko tun kapea) da si kenalne gen tando-tando-ne ngen madeak : harto da udi kemopoa ngen jano da trus udi mombongne-o coa ba melei manfa'at gen udi.
- وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَتِهِمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿٤٨﴾
49. (Tun-tun neak das a'far betanye ngen penghuni nrako) do-o kah tun-tun da udi bik besupeak bahwa udi coakan dapet rahmat Allah ? (ngen tun mukmin-o madeak) masukba moil em sergo coa ade kuwatir adepnu ngen coa (kulo) udi besedih atei.
- أَهْتُولَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ﴿٤٩﴾
50. Dan penghuni nrako majok ngen penghuni sergo keleiba ngen keme didik bioa atau upan da bik nerezkai Allah ngen ko, si (penghuni sergo) jemawab sebeneane Allah bik mengharamkan keduaine-o utuk tun-tun kapea.
- وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهَا عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٥٠﴾

51. Dioba tun-tun menea agamane awei main-main ngen beragam ngen kehidupan dennyo bik ngike si, mako pado bilai (kiyamat yo) Keme coa nginget si awei ipe si coa nginget penemau si ngen bilai-o (aweipe) si terus ngike ayat-
a y a t K e m e .

الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ
الدُّنْيَا ۖ فَالْيَوْمَ نَنسِفُهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ
هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا تَجْحَدُونَ ﴿٥١﴾

52. Dan sebeneane Keme bik melei do kiteb (quran) gen si dan Keme bik jemlasne kunei dasar pengetahuan keme ijai petunjuk gen rahmat utuk tun-tun da
b e i m e n .

وَلَقَدْ جَعَلْنَاهُمْ بِكْتَابٍ فَصَلَّنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً
لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٢﴾

53. Coaba si mot-mot kecuali (berlakune kebenea) quran-o, pado bilai tekone kebenaran brita quran-o milingba tun-tun da coa tinget quran ayok-o sebeneane bik teko rasul-rasul tuhan keme mbin da haq, mako adekah utuk keme da melei syafa'at da lok melei syafa'at utuk keme atau dapetkah keme neleak (moi dunnyo) keme dapet beramea da luyen kunei pernah keme mamea? Niyen si bik rugai dirai si dewek gen bik laput ba kune si tuhan-tuhan da si menea.

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ ۚ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلَهُ يَقُولُ
الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ
فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلْ غَيْرَ
الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ۚ قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا
كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٥٣﴾

54. Sebeneane tuhan-nu dioba Allah da sudo menciptakan (menea) lenget gen bumei lem num maso lajau Si diyen neak das 'arasy, Si temutup kelmen ngen keak bilai da temotoa ngen gacang dan (menyiptane kulo) matai bilai , bulen ngen bitang-bitang (kutene) tunduk ngen periteak-Ne. Inget ba menciptakan ngen meriteak do-oba hak Allah, paling berkah Allah
T u h a n S e m e s t a a l a m .

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي
سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشَى اللَّيْلَ النَّهَارَ
يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ
بِأَمْرِهِ ۗ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٥٤﴾

55. Ndu-o ba gen Tuhan-nu ngen rendea dirai ngen suaro da lembut, sebenea-ne Allah coa tujau ngen tun-tun da melapau batas.

ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ۚ إِنَّهُ لَا يَحِبُّ
الْمُعْتَدِينَ ﴿٥٥﴾

56. Dan jibeakba udi menea usak neakmuko bumei sudo (Allah) meluruak ngen ndu-

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ

- oba gen Si ngen asai saben (coakan terimo) ngen harapan (lok kenabul), sebeneane rahmat Allah pa-ok gen tun-tun da menea da baik.
57. Dan Si ba da teniup angin mbin brita riang ayok teko rahmat-Ne (ujen) sapei amen angin-o sudo mbin men(d)ung Keme musir moi da tandus (keing) lajau Keme temu-un ujen neak do sade-o mako Keme kemlua ngen sebab ujen-o mecem-mecem buak-buak, awei-o ba Keme kemlongon tun-tun da sudo matei boliak udi mok pelajaran.
58. Dan taneak da baik tanem-tanemne subur ngen ijin Allah dan taneak da coa subur tanem-tanemne hidupmerana, awei-o ba Keme mulang tando-tando kelai Keme utuk tun-tun da besukur.
59. Sebeneane keme sudo mutus nu ngen kaum ne lajau si madeak hoi kaum ku sembeak ba Allah agok debat coa de tuhan utuk nu seluyen Allah. Sebeneakne (amen udi coa sembeak Allah) uku saben udi paset keno azab bilai kiamat.
60. Pemuko-pemuko kunei kaum ne madeak sebeneane keme mandang udi ade lem t e s e s o k d a k e t e n .
61. Nu jemawab hoi kaum ku coa ade tesesok ngen uku agok didik tapi uku ade ba utusan kunei tuhan semesta alam.
62. Uku semapei ngen udi pesen-pesen kunei tuhan ku ngen uku melei nasehat gen ko dan uku mengetahui kunei Allah jano da c o a u d i n a m e n .
63. Dan janokah udi (coa pecayo) da heran sebab teko ngen udi peringatan kunei tuhan udi ngen perantaro suang semanei
- خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾
- وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۗ حَتَّىٰ إِذَا أَقْلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۗ كَذَٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥٧﴾
- وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۗ وَالَّذِي خَبثَ لَا يَخْرِجُ إِلَّا نَكْدًا ۗ كَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ﴿٥٨﴾
- لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ۖ فَقَالَ يَتَّقُوا اللَّهَ ۖ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥٩﴾
- قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ ۖ إِنَّا لَنَرْنَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٦٠﴾
- قَالَ يَتَّقُوا اللَّهَ ۖ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦١﴾
- أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ ۖ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦٢﴾
- أَوْعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ

<p>kunei golongan nu buliak si melei peringatan ngen ko dan buliak udi betaqwa ngen buliak udi dapet rahmat?.</p>	<p>لِيُنذِرْكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٦٤﴾</p>
<p>64. Mako si mike nuh sudo-o keme selamatkan si gen tun-tun da serpok neak lem bahtera ngen keme men(d)em tun-tun da ngike ayat-ayat keme sebeneakne si o ba kaum da buto (matai atei ne).</p>	<p>فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلِّ وَأَعْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ ﴿٦٥﴾</p>
<p>65. Dan (keme sudo mutus) ngen kaum 'Aad sepasuak ne hud si madeak hoi kaum ku sembeak ba Allah agok debat coa ade tuhan utuk nu seluyen Allah mako gentai udi coa bertaqwa gen Si.</p>	<p>﴿٦٥﴾ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنْقَوْمِ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّ إِلَهِ غَيْرُهُ ۚ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٦٦﴾</p>
<p>66. Pemuko-pemuko da kapia kunei kaum ne madeak sebeneane keme benea-benea mandang udi dau lem keadaan kuang akea gen sebeneane keme mangep udi dau termasuk tun-tun da mengike.</p>	<p>قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرْنَكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٦٧﴾</p>
<p>67. Hud madeak : hoi kaum ku coa ade ngen uku kuang akea agok didik tapi uku yo ade ba utusan kunei tuhan semesta alam.</p>	<p>قَالَ يَنْقَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٨﴾</p>
<p>68. uku semapei pesen-pesen tuhan ku mgem udi dan uku ade ba tukang melei nasihat da terpecayo utuk nu.</p>	<p>أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ أَمِينٌ نَّاصِحٌ ﴿٦٩﴾</p>
<p>69. janokah udi (coa pecayo) ngen heran bahwa teko ngen udi peringatan kunei tuhan nu da embin do suang semanei neak antaro nu utuk melei peringatan ngen ko? Dan inget ba utuk udi kutene neak waktau Allah jemlas kan udi utuk gitei-gitei (da bekuaso) sudo nyep ne kaum Nuh ngen tuhan melebihi kan kuet awok gen ules nu (kunei kaum Nuh o) mako inget ba nikmat-nikmat Allah buliak udi dapet utung.</p>	<p>أَوْعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ ۚ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصْطَةً ۗ فَادْكُرُوا ءَالَآءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٠﴾</p>

70. Si madeak janokah udi teko ngen keme buliak keme sembeak Allah bae ngen teminggeak jano da biaso da sembeak rombongan bak-bak keme mako teko ba azab da udi macam, semaben ngen keme amen udi termasuk tun-tun da benea.
- قَالُوا أَجِئْنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ
 ءَابَاؤُنَا ۗ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿٧٠﴾
71. Si madeak nien sudo paset udi lok keno azab dan kemngiak kunei tuhan nu jano kah udi kute lok melawen ngen uku tentang gen-gen (patung) da udi ngen ninik munyang nu menea gen ne padahal Allah agok debat coa temuun alasan utuk o? mako em(b)ot ba (azab o) sebenea ne uku kulo termasuk tun da em(b)ot serpok udi.
- قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ ۗ
 أَتَجِدُلُونِي فِيْٓ أَسْمَاءِ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَّءَابَاؤُكُمْ مَّا
 نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ۚ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ
 الْمُنْتَظِرِيْنَ ﴿٧١﴾
72. Mako keme semlamat Hud serpok tun-tun serpok ne ngen rahmat da lai kunei keme, ngen keme majua tun-tun da mengike ayat-ayat keme dan coa ba udi t u n - t u n d a b e i m e n .
- فَأَخْبَيْنَهُ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِيْنَ
 كَذَبُوْا بِآيٰتِنَا ۗ وَمَا كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ ﴿٧٢﴾
73. Dan (keme sudo mutus) ngen kaum Tsamud sepasuakne shaleh si madeak hoi kaum ku sembeak ba Allah agokdebat coa ba ade tuhan utuk nu seluyem Allah sebenene sudo teko bukti da keten ngen udi kunei tuhan nu, uto bei Allah-o menea tando utuk nu, mako kunyau ba si embuk upan neak bumei Allah dan jibeak ba udi gemanggau ne udi paset keno sikso da gis .
- وَإِلَى ثَمُوْدَ أَخَاهُمْ صٰلِحًا ۗ قَالَ يٰٓقَوْمِ اعْبُدُوْا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلٰهٍ غَيْرُهُ ۗ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ ۗ
 هٰذِهِ نٰقَةٌ ۗ لَكُمْ لَكُمْ ءَايَةٌ ۗ فَذَرُوْهَا تٰكُلْ فِيْ
 اَرْضِ اللَّهِ ۗ وَلَا تَمْسُوْهَا بِسُوْءٍ فَيَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ ﴿٧٣﴾
74. Dan inget ba utuk ne neak waktau tuhan menea udi gitei-gitei (da bekuaso) sudo kaum ' Aad ngen melel pelabai utuk-ne neak bumei udi temgok istana-istana neak taneak-taneak-ne da datea gen udi tentus tebo-tebo-ne utuk meneak umeak mako iget ba nikmat-nikmat Allah ngen jibeak ba udi aseki neak muko bumai menea u s a k .
- وَأذْكُرُوْا إِذْ جَعَلْكُمْ خُلَفَآءَ مِنْۢ بَعْدِ عَادٍ وَنَوَّأَكُمْ
 فِي الْاَرْضِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْ سُهُوْلِهَا قُصُوْرًا
 وَتَنْحِتُوْنَ الْجِبَالَ بُيُوْتًا ۗ فَاذْكُرُوْا ءَالَاءَ اللَّهِ وَلَا
 تَعْتَوُوْا فِي الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ﴿٧٤﴾

75. Pemuko-pumuko mombong dirai neak antaro kaum ne miling ngen tun-tun da nanggep ne lemah das uto beimen neak antaro udi namen kah udi shaleh bik nutus (ijai rasul) oleh tuhan ne? si jemawab sebeneane keme beimen ngen wahyu, da shaleh nutus utuk semapei kan ne ?.
- قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ اَتَعْلَمُونَ اَنْ صَلِحًا مُرْسِلٌ مِّن رَّبِّهِ ؕ قَالُوا اِنَّا بِمَا اُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٧٥﴾
76. Tun-tun da mombong kan dirai madeak sebenene keme ade ba tun da coa pecayo ngen jano da udi mimen-o.
- قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا اِنَّا بِالَّذِي ءَامَنْتُمْ بِهِ كٰفِرُونَ ﴿٧٦﴾
77. Sudo-o udi sembeliak uto bei-o udi sipet angkuh adep periteak tuhan dan udi madeak hoi shaleh teko ba jano da udi macam ngen keme amen (nien) udi termasuk tun-tun da bik nutus Allah.
- فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَصْلِحْ اٰتِنَا بِمَا تَعِدُنَا اِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٧٧﴾
78. Kerno-o udi tenipo gepo mako jijai ba udi mayat-mayat da bergulek neak pelabai tinggea udi.
- فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جٰثِمِينَ ﴿٧٨﴾
79. Mako shaleh teminggea udi samo madeak hoi kaum ku sebeneane uku sudo semapei ngen ko pesen-pesen tuhan ku dan uku sudo melei nasihat gen ko, tapi udi coa tujau tun-tun da melei nasihat.
- فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يٰٓقَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلٰكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّصِيحَ ﴿٧٩﴾
80. Dan (keme kulo sudo meluak) Luth (ngen kaum ne) inget ba idong si madeak ngen kaum ne gentai udi kemrejo kerjo fakhisya-o da ati perneak kenrejo agok dotun (neak denio yo) ayok nu.
- وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اَتَاْتُونَ الْفٰحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اٰحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٨٠﴾
81. Sebeneane udi magea semanei utuk empas nafsu-nu (ngen udi) iso ngen selawe; malah udi yo ade ba kaum da melapau batas.
- اِنَّكُمْ لَتٰتٰوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَاءِ ؕ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿٨١﴾

82. Jawab kaum-ne coa luyen cuman madeak usir-ba si (Luth ngen pengikut ne) kunei kota-nu yo sebeneane udiyoba tun-tun da icak-icak semucaidirai.
- وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ
مِّن قَرْيَتِكُمْ ۖ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ ﴿٨٢﴾
83. Sudo-o Keme sehlamatkan si ngen pengikut-pengikut ne kecuali ngenyan ne si termasuk tun-tun da tinggea.
- فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٨٣﴾
84. Dan keme temu-un ngen si ujen (butau) mako keliak ba akuak ro kesudo ne tun-tun da beduso-o.
- وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا ۖ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿٨٤﴾
85. Dan (keme sudo meluak) ngen penduduk Madyan sepasuakne Su'aib,si madeak hao kaumku sembeakba Allah, agok debat coa ade tuhan utuknu seluyen Allah, sebeneane bik tekongen udibukti daketen kunei tuhan udi. Mako sempornoba takea gen timbang jibeakba di kemu-ang utuk manusio barang-baang da tenakia gen da tenimbang, jibeakba udi menea usak neakmukobumei bik sudo tuhan muruak, da awei-o lebiak baik utuknu amen betoa-betoe udi tun-tun da b e i m e n .
- وَالِى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۗ قَالَ يَبْنَؤُمْ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ۗ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٨٥﴾
86. Dan jibeakba uditemot neak tiep-tiep dalen ngen nyaben-nyaben ngen menghalang-halangi tun da beimen kunei dalen Allah, dan kemlok buliak dalen Allah-o jijai brikok, dan inget ba neak waktau bel-one udi bejumlah didik lajau Allah medau jumlah udi, dan keliakba akuak ro kesudo tun-tun da menea k e r u s a k a n .
- وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَن ءَامَنَ بِهِ ۖ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا ۚ وَادْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَتَرْتُمْ ۖ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿٨٦﴾

87. Amen ade sekelopok kunei udi beimen ngen jano da Uku mutus utuk semapeinu ngen ade (kulo) sekelopok da coa da beimen mako besabarba sapei Allah tentep hokum-Ne neak antaro te, dan Si- o bad a sebaik-baik hakim.

وَإِنْ كَانَ طَآئِفَةٌ مِّنْكُمْ ءَامَنُوا بِأَلَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ
 وَطَآئِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّىٰ نَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا
 وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴿٤٧﴾